

آيَاتُهَا ۳۰ (۶۷) سُورَةُ الْمَلِكِ مَكِّيَّةٌ (۷۷) لُكُوعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی

اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے ①

وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو

تاکہ آزمائش کرے تمہاری کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے

عمل میں۔ اور وہ ہے زبردست، بے انتہا معاف فرمانے والا ②

وہ ذات جس نے بنائے سات آسمان تہ بہ تہ۔

نہ دیکھو گے تم رحمن کی تخلیق میں کوئی بے ربطی۔

ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو بھلا نظر آتا ہے تم کو کوئی خلل؟ ③

پھر دوڑاؤ نظر بار بار پلٹ آئے گی

تمہاری طرف نگاہ تھک کر اور وہ نہمرا دہو گی (خلل کی تلاش میں) ④

اور بے شک آراستہ کیل ہے ہم نے آسمان دنیا کو

چراغوں سے اور بنا دیا ہے ہم نے انہیں ماہر گانے کا ذریعہ

شیاطین کو اور مہیا کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے

دکھتی آگ کا عذاب ⑤

اور ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ①

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ②

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ

رَبِّبَلَّوْكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ

عَمَلًا ③ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ④

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا

مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفُوتٍ ⑤

فَارْجِعِ الْبَصَرَ ⑥ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ⑦

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ

اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ⑧

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا

بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا

لِلشَّيْطَانِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ

عَذَابَ السَّعِيرِ ⑨

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَدْرَبُهُمْ

عَذَابُ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑤
 إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا
 شَهيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ⑥
 تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۗ
 كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ
 سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهَا
 أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ⑧
 قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا
 نَذِيرٌ ۚ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا
 مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنْتُمْ
 إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ⑨
 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ
 مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑩
 فَأَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ ۖ
 فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑪
 إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
 بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑫
 وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۗ
 إِنَّهُ عَلَيْكُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑬

جہنم کا عذاب اور (وہ) بہت برا ہے ٹھکانا ⑤
 جب پھینکے جائیں گے وہ اس میں تو سنیں گے اُس کی
 دھاڑنے کی آواز اور وہ جوش کھا رہی ہوگی ⑥
 اس قدر کہ قریب ہے پھٹ جائے وہ شدت غضب سے۔
 جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کوئی گروہ
 تو پوچھیں گے ان سے جہنم کے داروغہ،
 کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی متنبہ کرنے والا؟ ⑧
 وہ جواب دیں گے کیوں نہیں بے شک آیا تھا ہمارے پاس
 متنبہ کرنے والا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا اور کہا
 نہیں نازل کیا اللہ نے کچھ بھی۔ نہیں ہو تم
 مگر پڑے ہوئے بڑی گمراہی میں ⑨
 اور کہیں گے وہ کاش! سنتے ہم اور عقل و شعور کو استعمال کرتے
 تو نہ ہوتے ہم دوزخیوں میں ⑩
 سوا قرار کر لیں گے وہ اپنے گناہ کا۔
 پس لعنت ہے دوزخیوں پر ⑪
 بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے
 بن دیکھے ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر ⑫
 اور آہستہ کہو تم اپنی بات یا اونچی آواز سے۔
 بے شک وہ پوری طرح باخبر ہے سینوں کے بھیدوں سے ⑬

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۴﴾

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ

ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا

وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَالْيَهُ النُّشُورُ ﴿۱۵﴾

ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ

فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿۱۶﴾

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۚ

فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿۱۷﴾

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

فَكَيفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۱۸﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ

صَفَتْ وَيُقْبَضْنَ ۚ

مَا يُسْكِنَنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ۚ

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿۱۹﴾

أَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ

يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۚ

بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا۔

حالانکہ وہ ہے باریک بین اور پوری طرح باخبر ﴿۱۴﴾

وہی تو ہے جس نے کر دیا ہے تمہاری خاطر زمین کو

تمہارا، تابع سوچلو پھر اس کی چھاتی پر

اور کھاؤ اللہ کا رزق اور اسی کے حضور تمہیں دوبارہ اٹھ کر جانا ہے ﴿۱۵﴾

کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے

اس بات سے کہ دھسا دے تم کو زمین میں

اور اچانک وہ لرزے لگے؟ ﴿۱۶﴾

یا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے

اس بات سے کہ بھیج دے تم پر پتھر اڈ کرنے والی ہوا؟

سو عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسی تھی میری تنبیہ! ﴿۱۷﴾

اور بے شک جھٹلا چکے ہیں وہ جو ان سے پہلے تھے

(تو دیکھ لو) کیسا تھا میرا عذاب ﴿۱۸﴾

اور کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے اٹتے پرندوں کو اپنے اوپر

پر پھیلاتے اور کیڑے؟

نہیں تھا مے ہوئے ہے انہیں کوئی سوائے رحمن کے۔

بے شک وہ ہر چیز کا نگہبان ہے ﴿۱۹﴾

بھلا وہ کون ہے جو لشکر بنے تمہارا

اور مدد کرے تمہاری رحمن کے مقابلے میں؟

إِنَّ الْكٰفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۲۰

أَمَّنْ هٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ

إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ،

بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ

وَأَنفُورٍ ۲۱

أَمَّنْ يَمِشِي مَكِبًا

عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ

يَمِشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۲۲

قُلْ هُوَ الَّذِي

أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ

السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ،

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۲۳

قُلْ هُوَ الَّذِي

ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ

وَالِيهِ تُحْشَرُونَ ۲۴

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هٰذَا الْوَعْدُ

إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۲۵

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ

عِنْدَ اللَّهِ، وَإِنَّمَا أَنَا

نہیں ہیں یہ کافر، مگر پڑے ہوئے ہیں دھوکے میں ۲۰

بھلا کون ہے وہ جو روزی دے تم کو

اگر روک لے رحمن اپنا رزق؟

دراصل اڑے ہوئے ہیں یہ (کافر) سرکش

اور حق سے نفرت پر ۲۱

بھلا وہ شخص جو چل رہا ہو اوندھا ہو کر

اپنے منہ کے بل زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو

چل رہا ہو بالکل سیدھا، سیدھے راستے پر؟ ۲۲

کہو! وہی تو ہے جس نے

پیدا کیا تمہیں اور بنائے ہیں تمہارے لیے

کان، آنکھیں اور مرکزِ حواس (دل و دماغ)۔

مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو ۲۳

کہو! وہی تو ہے جس نے

پھیلا یا تم کو زمین میں

اور اسی کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے ۲۴

اور کہتے ہیں یہ کب پوری ہوگی یہ دھمکی

اگر ہو تم سچے ۲۵

کہہ دو بس اس کا علم تو صرف

اللہ کے پاس ہے۔ اور بس میں تو

نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۶﴾

فَلَمَّا رَأَوْهُ

زُلْفَةً سَيِّئَتْ

وُجُوهُ الَّذِينَ

كَفَرُوا وَقِيلَ

هَذَا الَّذِي

كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴿۲۷﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ

إِنْ أَهْلَكَنِیَ اللَّهُ

وَمَنْ مَعِیَ أَوْ رَحِمْنَا ۚ

فَمَنْ يُجِیْرُ

الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿۲۸﴾

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ

أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ

تَوَكَّلْنَا ۚ فَسْتَعْمُوا

مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۹﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ

مَأْوَاكُمْ غَوْرًا فَمَنْ

يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿۳۰﴾

متنبہ کرنے والا ہوں، واضح طور پر ﴿۲۶﴾

پھر جب دیکھیں گے وہ اس کو

قریب تو بگڑ جائیں گے

چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے

کفر کیا تھا اور کہا جائے گا

یہی تو ہے وہ جس کا

تم تقاضا کرتے تھے ﴿۲۷﴾

کو! کیا سوچا تم نے

جبکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہلاک کر دے مجھے اللہ

اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں یا رحم فرمائے ہم پر

تو بھلا کون ہے جو بچالے

کافروں کو دردناک عذاب سے؟ ﴿۲۸﴾

کہ دو! وہ رحمن ہے

ایمان لائے ہم اس پر اور اسی پر

بھروسہ ہے ہمارا۔ سو عقرب معلوم ہو جائے گا تمہیں

کہ کون پڑا ہوا ہے کھلی گراہی میں ﴿۲۹﴾

کو! کیا تم نے سوچا کہ اگر ہو جائے

تمہارا پانی خشک تو کون ہے جو

لائے تمہارے لیے چشمے کا پانی؟ ﴿۳۰﴾

(۶۸) سُورَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ (۲) آیاتہا ۵۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

- ❖ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ①
- نون - قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھتے ہیں ①
- مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ②
- نہیں ہو تم اپنے رب کے فضل سے دیوانہ ②
- وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ③
- اور یقیناً تمہارے لیے ہے اجر، بے انتہا ③
- وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ④
- اور بے شک تم فائز ہو اخلاق کے بڑے مرتبے پر ④
- فَسْتَبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ ⑤
- سو عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے ⑤
- بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ ⑥
- کہ تم میں سے کون ہے دیوانہ ⑥
- إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
- بِمَنْ ضَلَّٰ عَنْ سَبِيلِهِ ⑦
- بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے
- وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ⑧
- ان کو بھی جو بھٹک گئے اس کی راہ سے
- فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ⑨
- اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو راہ راست پر ہیں ⑧
- وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ
- پس نہ کہا ماننا تم جھٹلانے والوں کا ⑨
- فَيُدْهِنُونَ ⑩
- یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم (تبلیغ دین میں) ڈھیلے پڑ جاؤ
- وَلَا تُطِعْ كُلَّ
- تو وہ بھی (تمہاری مخالفت میں) ڈھیلے پڑ جائیں ⑩
- حَلَّافٍ مَّهِينٍ ⑪
- لیکن تم ہرگز نہ کہا ماننا کسی ایسے شخص کا
- هَتَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ⑫
- جو ہے بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل ⑪
- ٹخنے دینے والا اور چغلیاں کھاتے پھرنے والا ⑫

مَنَاءٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۱۲

عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۱۳

أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۱۴

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا

قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۱۵

سَنَسِيحُهُ عَلَى الْخُرطومِ ۱۶

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ

كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ

إِذْ أَقَامُوا

لِيَصْرُمْتَهَا مُضْجِعِينَ ۱۷

وَلَا يَسْتَشْنُونَ ۱۸

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ

وَهُمْ نَآئِبُونَ ۱۹

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۲۰

فَتَنَادَوْا مُضْجِعِينَ ۲۱

أِنِ اعْدُوا عَلَىٰ حَدِّكُمْ

إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۲۲

فَانطَلِقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۲۳

أَن لَّا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ۲۴

بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، بڑا گنہگار ۱۲

سرکش ان سب عیوب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بداصل بھی ہے ۱۳

اس بنا پر کہ ہے وہ مالدار اور صاحب اولاد ۱۴

جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیات

تو کہتا ہے کہ یہ تو افسانے ہیں پہلے لوگوں کے ۱۵

عنقریب داغ لگائیں گے ہم اس کی سونڈ (ناک) پر ۱۶

ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے ان کفار کو

جس طرح آزمائش میں ڈالا تھا ہم نے ایک باغ والوں کو۔

جب انہوں نے قسم کھائی تھی

کہ ضرور ہم پھل توڑیں گے اپنے باغ کا صبح سویرے ۱۷

اور انشاء اللہ نہ کہا تھا ۱۸

تو پھر گئی اس باغ پر ایک آفت تیرے رب کی طرف سے

جبکہ وہ سو رہے تھے ۱۹

پس ہو کر رہ گیا وہ کٹے ہوئے کھیت کی طرح ۲۰

پھر پکارا انہوں نے ایک دوسرے کو صبح سویرے ۲۱

یہ کہ چل پڑو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف،

اگر تمہیں پھل توڑنے ہیں ۲۲

چنانچہ وہ چل پڑے اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے ۲۳

کہ نہ داخل ہونے پائے یہاں آج تمہارے پاس کوئی مسکین ۲۴

وَعَدَا عَلٰی جَدْرِ

اور گئے وہ صحر سیرے پکتے ہوئے

قَدْرَيْنَ ۱۵

اس انداز سے گویا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں ۱۵

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوا

مگر جب دیکھا انہوں نے باغ کو تو کہنے لگے:

اِنَّا لَصَا لُوْتٌ ۱۶

یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں ۱۶

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۱۷

نہیں بلکہ ہماری تو قسمت ہی بھوٹ گئی ہے ۱۷

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ

کہا ان کے بہتر آدمی نے: کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے

لَوْ لَا تَسْبِحُونَ ۱۸

کہ کیوں نہیں تسبیح کرتے تم؟ ۱۸

قَالُوا سُبْحٰنَ رَبِّنَا

وہ پکار اٹھے: پاک ہے ہمارا رب،

اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۱۹

بے شک ہم ہی تھے ظالم ۱۹

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ

پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے

يَتَنَلَوْنَ ۲۰

باہم ملامت کرنے لگے ۲۰

قَالُوا اِيُوْنِكُنَا اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ۲۱

کہنے لگے: ہائے بد نصیبی! بے شک ہم ہی تھے سرکش ۲۱

عَسٰی رَبُّنَا اَنْ يُبَدِّلَنَا

کچھ بعید نہیں کہ ہمارا رب بدلے میں دے دے ہمیں

خَيْرًا مِنْهَا اِنَّا

بہتر اس باغ سے، بے شک ہم

اِلٰى رَبِّنَا لَمُرْغَبُونَ ۲۲

اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں ۲۲

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ

ایسا ہوتا ہے عذاب۔ اور عذابِ آخرت تو

اَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۲۳

کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش! یہ لوگ جانتے (اس بات کو)، ۲۳

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ

یقیناً ہیں متقیوں کے لیے ان کے رب کے ہاں

جَنَّتِ النَّعِيْمُ ۲۴

نعمت بھری جنتیں ۲۴

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿۲۵﴾

مَا لَكُمْ وَقْتُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۲۶﴾

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿۲۷﴾

إِن لَّكُمْ فِيهِ لَمَّا تَخَيَّرُونَ ﴿۲۸﴾

أَمْ لَكُمْ آيَاتُنَا عَلَيْنَا

بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ لَكُمْ

لَمَّا تَحْكُمُونَ ﴿۲۹﴾

سَلْمُهُمْ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿۳۰﴾

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ۖ

فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ

إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۳۲﴾

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ

وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ

وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿۳۳﴾

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ

بِهَذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ

کیا کر دیں ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کی مانند ﴿۲۵﴾

کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ ﴿۲۶﴾

کیا تمہارے پاس ہے کوئی کتاب جس میں پڑھتے ہو تم ﴿۲۷﴾

کہ ضرور تمہارے لیے وہاں وہی کچھ ہے جو پسند کرتے ہو تم؟ ﴿۲۸﴾

یا پھر کیا تمہارے کچھ عہد و پیمان ہیں ہماریساتھ

جو باقی رہیں گے روز قیامت تک، کہ ضرور تمہیں وہی ملے گا

جو تم حکم دو گے؟ ﴿۲۹﴾

پوچھو ان سے کہ ان میں سے کون ہے جو اس کا ضامن ہے ﴿۳۰﴾

یا میں ان کے (ٹھہرائے ہوئے) کچھ شریک؟

تو لائیں یہ اپنے شریکوں کو،

اگر میں یہ سچے ﴿۳۱﴾

جس دن پنڈلی کھولی جائے گی

اور ہلٹے جائیں گے سب سجدے کے لیے

تو نہ کر سکیں گے (سجدہ) یہ لوگ ﴿۳۲﴾

بھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، چھارہی ہوگی ان پر ذلت۔

اس لیے کہ (جب) بلایا جاتا تھا انہیں سجدے کے لیے

جبکہ وہ تھے صحیح سالم (تو انکار کرتے تھے) ﴿۳۳﴾

پس چھوڑ دو مجھے (اے نبی) اور ان کو جو جھٹلاتے ہیں

اس کلام کو عنقریب ہم آہستہ آہستہ لے جائیں گے ان کو (تباہی کی طرف)

مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾
وَأُمْلِي لَهُمْ ۝

إِن كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۳۵﴾

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ

مَنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿۳۶﴾

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿۳۷﴾

فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ

كَصَاحِبِ الْحُوتِ ۝

إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿۳۸﴾

لَوْلَا أَن تَدْرَكُهُ نِعْمَتُهُ

مِّن رَّبِّهِ لَنُبِدَّ

بِالْعُرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿۳۹﴾

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ

فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۴۰﴾

وَلَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ لِنِعْمَتِهِ إِذْ كَفَرُوا

لِيُرَاقُوكَ يَا أَبْصَارِهِمْ

لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ

إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿۴۱﴾

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿۴۲﴾

ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی ﴿۳۴﴾

اور میں انہیں مہلت دے جا رہا ہوں،

بے شک میری چال بڑی مضبوط ہے ﴿۳۵﴾

کیا تم طلب کرتے ہو ان سے کسی قسم کی اجرت جس کی وجہ سے یہ

چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ ﴿۳۶﴾

یا پھر ان کے پاس ہے غیب کی خبر جسے یہ لکھ لاتے ہیں ﴿۳۷﴾

سو انتظار کرو اپنے رب کے فیصلہ کا اور نہ ہو جانا

مچھلی والے (یونسؑ) کی طرح۔

جب اس نے پکارا تھا اپنے رب کو اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا ﴿۳۸﴾

اگر نہ شامل حال ہوتی اس کے مہربانی

اس کے رب کی تو پھینک دیا جاتا

چٹیل میدان میں، اور ہوتا وہ ملامت زدہ ﴿۳۹﴾

آخر کار نوازا اسے اس کے رب نے

اور شامل کر لیا اسے صالحین میں ﴿۴۰﴾

اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کافر

اکھاڑیں گے تمہارے قدم اپنی (بدی) نظروں سے

جب سنتے ہیں قرآن اور کہتے ہیں

یہ تو ضرور دیوانہ ہے ﴿۴۱﴾

حالا کہ یہ تو ہے ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے ﴿۴۲﴾

آيَاتُهَا ۵۲ سُورَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ (۶۸) نكوحانها ۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

﴿ الْحَاقَّةُ ۱ ﴾

ہو کر رہنے والی ①

﴿ مَا الْحَاقَّةُ ۲ ﴾

کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی؟ ②

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۳ ﴾

اور کیا جانو تم کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی؟ ③

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۴ ﴾

جھٹلایا ثمود اور عاد نے، عظیم حادثہ کو ④

﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۵ ﴾

پھر ثمود تو ہلاک کر دیئے گئے خوفناک کڑک سے ⑤

﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا

اور ہے عاد، سو وہ ہلاک کیے گئے

بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۶ ﴾

ایسی ہوا سے جو شدید سرد اور طوفانی تھی ⑥

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ

مسلط رکھا اسے ان پر سات راتیں

وَأَثْنِيَّةَ أَيَّامٍ ۷ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ

اور آٹھ دن، مسلسل اس طرح کہ دیکھتے تم ان لوگوں کو

فِيهَا صَرْعَى ۸ كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ

کہ وہاں وہ گر کر مرے پڑے ہیں گویا کہ وہ تنے ہیں

نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۹ ﴾

کھجور کے، بوسیدہ ⑨

﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ۱۰ ﴾

تو کیا دیکھتے ہو تم ان میں سے کوئی بچا ہوا؟ ⑩

﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ

اور ارنیکا ب کیا، فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے

وَالْمُؤْتَفِكُتْ بِالْخَاطِئَةِ ۱۱ ﴾

اور اٹھی ہوئی بستیوں والوں نے خطائے عظیم کا ⑪

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ

اس طرح کہ نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے رسول کی

فَاخْذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ⑩

إِنَّا لَنَاطِقُا الْمَاءِ

حَمَلْنَكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ⑪

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً

وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ⑫

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ⑬

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ

فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ⑭

فِيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ⑮

وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ

يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ⑯

وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ

فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ⑰

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى

مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ⑱

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ

فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَةَ ⑲

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلِقٌ حِسَابِيَةَ ⑳

تو پکڑا اللہ نے ان کو انتہائی سختی سے ⑩

یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ہم ہی نے جب پانی طغیانی پر آیا

تو سوار کر دیا تم کو کشتی میں ⑪

تا کہ بنا دیں اس کو تمہارے لیے ایک یادگار

اور یاد رکھیں اسے کان، جو یاد رکھنے والے ہوں ⑫

پھر جب بھونکا جائے گا صور میں ایک بار ⑬

اور اٹھائے جائیں گے زمین اور پہاڑ

پھر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ایک ہی چوٹ میں ⑭

سو اس دن برپا ہو جائے گی قیامت ⑮

اور پھٹ جائے گا آسمان تو ہو گا وہ

اس دن بکھرا ہوا ⑯

اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر۔

اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو

اپنے اوپر اس دن آٹھ فرشتے ⑰

اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، نہیں چھپا سبے گا

تمہارا کوئی پوشیدہ راز ⑱

سو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں

تو وہ کہے گا آؤ دیکھو! اور پڑھو میرا اعمال نامہ ⑲

مجھے یقین تھا ضرور واسطہ پڑے گا مجھے اپنے حساب سے ⑳

فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۲۱

سو یہ تو ہو گا دل پسند عیش میں ۲۱

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۲۲

اعلیٰ درجہ کی جنت میں ۲۲

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۲۳

جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے ۲۳

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا

دکھا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے بدلے میں

أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۲۴

ان (اعمال) کے جو کیے تھے تم نے گزے ہوئے دنوں میں ۲۴

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ

اور رہا وہ جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ

بِشِمَالِهِ ۵ فَيَقُولُ

اس کے بائیں ہاتھ میں سو وہ کے گا

يَلَيْتَنِي لَمْ أُوْتِ كِتَابَهُ ۲۵

کاش! نہ دیا جاتا مجھے میرا اعمال نامہ ۲۵

وَلَمْ أَدِرْ مَا حِسَابِيهِ ۲۶

اور نہ جانتا میں کہ کیا ہے میرا حساب؟ ۲۶

يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۲۷

کاش! میری یہ موت ہوتی فیصلہ کن ۲۷

مَا أَعْنَى عَنِّي مَالِيهِ ۲۸

کچھ کام نہ آیا میرے میرا مال ۲۸

هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۲۹

چھن گیا مجھ سے میرا اقتدار ۲۹

خَذُوهُ فَعُوقُوهُ ۳۰

(ارشاد ہو گا) پکڑو اسے اور طوق پہنادو ۳۰

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۳۱

پھر جہنم میں جھونک دو اسے ۳۱

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا

پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی

سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۳۲

ستر گز ہے جگر دو اسے ۳۲

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۳۳

واقعہ یہ ہے کہ یہ شخص ایمان نہ لاتا تھا اللہ جل شانه پر ۳۳

وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۳۴

اور نہ ترغیب دیتا تھا مسکین کا کھانا دینے کی ۳۴

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ۳۵

سو نہیں ہے اس کا آج یہاں کوئی جگری دوست ۳۵

وَلَا طَعَامًا إِلَّا مِنْ غَسِيلِينَ ﴿٣٥﴾

اور نہ کوئی کھانا مگر زخموں کا دھوون ﴿٣٥﴾

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٣٦﴾

نہیں کھائے گا اسے کوئی سوائے گنہگاروں کے ﴿٣٦﴾

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ ﴿٣٧﴾

پس نہیں، قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جو دیکھتے ہو تم ﴿٣٧﴾

وَمَا لَا تُبْصَرُونَ ﴿٣٨﴾

اور ان کی بھی جنہیں نہیں دیکھتے تم ﴿٣٨﴾

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٣٩﴾

بے شک قرآن قول ہے رسولِ عالی مقام کا ﴿٣٩﴾

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ رَّءِيفٍ ﴿٤٠﴾

اور نہیں ہے یہ کلام کسی شاعر کا۔

قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

بہت ہی کم ایمان لاتے ہو تم ﴿٤١﴾

وَلَا يَقُولُ كَآهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكُرُونَ ﴿٤٢﴾ اور نہیں ہے قول کسی کاہن کا بہت ہی کم غور کرتے ہو تم ﴿٤٢﴾

تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾

نازل کردہ ہے ربِّ العالمین کی طرف سے ﴿٤٣﴾

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾

اور اگر کہیں خود گم کر منسوب کرتا یہ ہماری طرف بعض باتیں ﴿٤٤﴾

لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾

تو ضرور پکڑتے ہم اسے بڑی قوت سے ﴿٤٥﴾

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾

پھر کاٹ ڈالتے ہم اس کی شہ رگ ﴿٤٦﴾

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَازِئِينَ ﴿٤٧﴾

تو نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی (ہمیں) اس سے روکنے والا ﴿٤٧﴾

وَإِنَّهُ لَتَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

اور یقیناً قرآن ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے ﴿٤٨﴾

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ

اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ ضرور

مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

تم میں سے کچھ (اس کو) جھٹلانے والے ہیں ﴿٤٩﴾

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

اور یقیناً یہ موجبِ حسرت ہے ان کافروں کے لیے ﴿٥٠﴾

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾

اور بے شک یہ یقینی حق ہے ﴿٥١﴾

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

پس (اے نبی!) تسبیح کرو تم اپنے ربِّ عظیم کے نام کی ﴿٥٢﴾

سُورَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ (۷۹) آيَاتُهَا ۳۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

مانگا ہے ایک مانگنے والے نے

سَأَلَ سَائِلٌ

بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ①

وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے ①

لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ②

کافروں کے لیے، نہیں ہے اس عذاب کو کوئی ہٹانے والا ②

مَنْ اللَّهُ ذِي الْمَعَارِجِ ③

(کیونکہ ہوگا وہ) اللہ کی طرف سے جو مالک ہے عروج کے زینوں کا ③

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ

چڑھ کر جاتے ہیں فرشتے اور روح

إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ

اس کے حضور، ایک ایسے دن میں

كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ④

ہے جس کی مقدار پچاس ہزار سال ④

فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ⑤

پس (اے نبی) صبر کرو، اچھا صبر ⑤

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ⑥

بے شک یہ سمجھتے ہیں اسے دور ⑥

وَنَزَرَهُ قَرِيبًا ⑦

اور دیکھ رہے ہیں ہم اسے قریب ⑦

يَوْمَ تَكُونُ

(یہ عذاب واقع ہوگا) اس دن جب ہو جائے گا

السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ⑧

آسمان تیل کی تپھٹ کی مانند ⑧

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ⑨

اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی مانند ⑨

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ⑩

اور نہ پوچھے گا کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو ⑩

يَبْصُرُونَ نَفْسَهُ ⑪

حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔

يَوْمَ الْمُجْرِمِ كَوْفَتَدِي

مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ۝۱۱

وَصَاحِبَتِهِ وَآخِيهِ ۝۱۲

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّبُهَا ۝۱۳

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۝۱۴

ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝۱۵

كَلَّا إِنَّهَا لَأُظَى ۝۱۶

نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى ۝۱۷

تَدْعُوا مَنْ

أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۝۱۸

وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۝۱۹

لَئِنَّا لَإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝۲۰

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝۲۱

وَإِذَا مَسَّهُ

الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝۲۲

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝۲۳

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝۲۴

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝۲۵

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝۲۶

خواہش کرے گا مجرم کاش! وہ فدیے میں دے دے

اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو ۱۱

اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو ۱۲

اور اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دیا کرتا تھا ۱۳

اور ان کو جو زمین میں ہیں سب کو

اور اس طرح نجات دلا دے یہ اپنے آپ کو ۱۴

ہرگز نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی پٹ ہوگی ۱۵

جو چاٹ جلے گی گوشت پرست کو ۱۶

جو پکار پکار کر بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے

پیٹھ پھیری اور منہ موڑا (حق سے) ۱۷

اور جمع کیا (مال) اور سینت سینت کر رکھا ۱۸

بلاشبہ انسان پیدا کیا گیا ہے بے صبراً ۱۹

جب پہنچتی ہے اسے تکلیف تو روتا پیتا ہے ۲۰

اور جب نصیب ہوتی ہے اسے

خوشحالی تو بخل کرتا ہے ۲۱

ان خرابیوں سے بچ جاتے ہیں وہ نماز پڑھنے والے ۲۲

جو ہیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ۲۳

اور وہ جن کے مالوں میں حصہ مقرر ہے ۲۴

سائلوں اور مسکینوں کے لیے ۲۵

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝۳۸

اور وہ جو برحق مانتے ہیں روزِ جزا کو ۳۸

وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ۝۳۹

اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں ۳۹

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ

واقعہ یہ ہے کہ ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا

غَيْرُ مَا مُونٍ ۝۴۰

کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے ۴۰

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝۴۱

اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ۴۱

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا

سوائے اپنی بیویوں کے یا ان (عورتوں) کے جو

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

ان کی ملک میں ہوں کہ وہ ان سے مباشرت کرنے پر

غَيْرُ مَلُومِينَ ۝۴۲

قابلِ ملامت نہیں ہیں ۴۲

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ

البتہ جو شخص چاہے گا اس کے علاوہ کچھ اور

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۝۴۳

سوائے ہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے ۴۳

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ

اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا

وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝۴۴

اور اپنے عہدوں کا پاس کرتے ہیں ۴۴

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۝۴۵

اور وہ جو اپنی شہادتوں میں ثابت قدم رہتے ہیں ۴۵

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝۴۶

اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں ۴۶

أُولَٰئِكَ فِي جَنَّةٍ مُّكْرَمُونَ ۝۴۷

یہ لوگ ہیں جو جنت کے باغوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے ۴۷

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا

سو کیا ہو گیا ہے اے نبی! ان لوگوں کو جو انکار کر رہے ہیں

قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ ۝۴۸

کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں یہ ۴۸

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ۝۴۹

دائیں اور بائیں جانب سے گروہ درگروہ ۴۹

أَيُّظْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ

کیا لالچ رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے

أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿۳۸﴾

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ

مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

إِنَّا لَقَدِيرُونَ ﴿۴۰﴾

عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ

خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا

نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿۴۱﴾

فَذَرَهُمْ يَخْضِبُونَ

وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلْقُوا

يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۴۲﴾

يَوْمَ يُخْرَجُونَ

مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا

كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ

يُوفَضُونَ ﴿۴۳﴾

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ

تَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ

ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي

كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۴۴﴾

کہ اسے داخل کر دیا جائے نعمت بھری جنت میں ﴿۳۸﴾

ہرگز نہیں۔ بے شک ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے

اس چیز سے جسے یہ خود جانتے ہیں ﴿۳۹﴾

سو نہیں، قسم کھاتا ہوں میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی،

یقیناً ہم قادر ہیں ﴿۴۰﴾

اس پر کہ بدل کر لے آئیں

بہتر لوگ ان سے اور نہیں

ہیں ہم (ایسا کرنے سے) عاجز ﴿۴۱﴾

سو (اے نبی) چھوڑ دو انہیں کہ غرق رہیں

اور منہمک رہیں اپنے کھیل میں حتیٰ کہ پہنچ جائیں

اس دن کو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے ﴿۴۲﴾

اس دن جب نکل کر یہ

قبروں سے تیزی کے ساتھ دوڑے جا رہے ہوں گے

اس طرح گویا کہ یہ مقابلہ کے لیے متعین کردہ نشان کی طرف

دوڑ رہے ہوں ﴿۴۳﴾

جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں

چھا رہی ہوگی ان پر ذلت۔

یہ ہے وہ دن جس سے

انہیں ڈرایا جاتا تھا ﴿۴۴﴾

آيَاتُهَا ۲۸ (۱) سُورَةُ نُوحٍ مَكِّيَّةٌ (۱) نُوْحًا ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا

إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ

قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ

يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ①

قَالَ يٰ قَوْمِ إِنِّي

لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ②

أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ③

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ

وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ④

إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا جَاءَ

لَا يُؤَخَّرُ مَلَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑤

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ

قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ⑥

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي

إِلَّا فِرَارًا ⑦

یقیناً ہم ہی نے بھیجا تھا رسول بنا کر نوحؑ کو

اس کی قوم کی طرف (اس ہدایت کے ساتھ کہ ڈراؤ

اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ

آجائے ان پر دردناک عذاب ①

کہا انہوں نے: اے میری قوم! یقیناً میں ہوں

تمہارے لیے صاف صاف متنبہ کرنے والا ②

یہ کہ عبادت کرو تم اللہ کی اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ③

معاف فرما دے گا وہ تمہارے کچھ گناہ

اور مہلت دے گا تمہیں ایک وقت مقرر تک۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آجاتا ہے

تو ٹالنا نہیں جاسکتا۔ کاش! تم جانتے (یہ بات) ④

نوحؑ نے عرض کیا: اے میرے رب! میں بلا تا رہا

اپنی قوم کو شب و روز ⑤

لیکن نہ اضافہ کیا ان میں میری دعوت نے

مگر فرار کا ⑥

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ

لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا

أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ

وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ

وَاصْتَرَوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ④

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ⑤

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ

وَاسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ⑥

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ

إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ⑦

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ⑧

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَبْنِيْنَ

وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ

لَكُمْ أَنْهَارًا ⑨

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ

بِئِهِ وَقَارًا ⑩

وَقَدْ خَلَقَكُمْ

أَطْوَارًا ⑪

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ

اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی انہیں دعوت دی

اس غرض سے کہ معاف کر دے تو انہیں، تو ٹھونس لیتے وہ

اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں

اور ڈھانک لیتے چہرے اپنے کپڑوں سے

اِدراڑ جاتے اپنی ضد پر اور بہت زیادہ تکبر کرتے ④

اس کے باوجود میں دعوت دیتا رہا انہیں ہانکے پکارتے ⑤

پھر میں نے تبلیغ کی ان میں علانیہ

اور سمجھایا انہیں چپکے چپکے بھی ⑥

سو میں نے کہا: معافی مانگو اپنے رب سے۔

یقیناً ہے وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ⑦

برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش ⑧

اور نوازے گا تمہیں مال و اولاد سے

اور پیدا کرے گا تمہارے لیے باغ اور جاری کر دے گا

تمہارے لیے نہریں ⑨

کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ نہیں امید رکھتے تم

اللہ سے بڑائی کی؟ ⑩

حالانکہ اسی نے پیدا کیا ہے تم کو

طرح طرح کی حالتوں میں سے گزار کر ⑪

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے پیدا فرمائے ہیں اللہ نے

سَبَعَ سَبُوتٍ طِبَاقًا ۱۵

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا

وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۱۶

وَاللَّهُ أَنْتَبِتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۱۷

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا

وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۱۸

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ

الْأَرْضَ بِسَاطًا ۱۹

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۲۰

قَالَ نُوحٌ رَبِّ انْتَهَم

عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا

مَنْ لَمْ يَزِدْهُ

مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ۲۱

وَمَكْرُؤًا مَكْرًا كَبِيرًا ۲۲

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ

الِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ

وَدًّا وَلَا سِوَاعَاهُ وَلَا يَغُوثَ

وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۲۳

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۲۴

سات آسمان تہ بہ تہ ۱۵

اور بنایا ہے چاند کو ان میں روشنی کے لیے

اور بنایا ہے سورج کو ایک جلتا چراغ ۱۶

اور اللہ ہی نے اگایا ہے تم کو زمین سے عجیب طریقہ سے ۱۷

پھر وہی واپس لے جائے گا تمہیں اسی زمین میں

اور پھر اسی میں سے تمہیں نکال کھڑا کرے گا ۱۸

یہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے

زمین کو ہموار ۱۹

تاکہ چلو تم اس کے اندر کھلے راستوں میں ۲۰

کہا نوحؑ نے: اے میرے رب! یقیناً انہوں نے

میری نافرمانی کی اور پیروی کی

ان کی جنہوں نے نہ اضافہ کیا

ان کے مال و اولاد میں مگر خسارے کا ۲۱

اور چلے وہ بڑی بڑی چالیں ۲۲

اور کہا انہوں نے: ہرگز نہ چھوڑنا

اپنے معبودوں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا تم

وَد کو اور نہ سِوَاع کو اور نہ یغُوث

اور یَعُوق اور نَسْر کو بھی ۲۳

اور اس طرح گمراہ کر دیا انہوں نے بہت سوں کو۔

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ

إِلَّا ضَلَالًا ﴿٣٦﴾

مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُغْرِقُوا

فَادْخُلُوا نَارًا ۙ

فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ

مَنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٣٧﴾

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ

لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ

مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٣٨﴾

إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ

يُضِلُّوا عِبَادَكَ

وَلَا يَلِدُوا

إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٣٩﴾

رَبِّ اغْفِرْ لِي

وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ

دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا

وَاللِّمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ

إِلَّا تَبَارًا ۙ ﴿٤٠﴾

اور نہ اضافہ کر تو بھی ان ظالموں کے لیے

مگر گمراہی میں ﴿۳۶﴾

اور اپنی ہی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے

اور داخل کیے گئے جہنم میں۔

پھر نہ پایا انہوں نے اپنے لیے

اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار ﴿۳۷﴾

اور کہا نوحؑ نے: اے میرے رب!

نہ باقی چھوڑ زمین پر

ان کافروں میں سے کوئی بسنے والا ﴿۳۸﴾

یقیناً تو نے اگر انہیں چھوڑ دیا

تو گمراہ کریں گے یہ تیرے بندوں کو

اور نہیں پیدا ہوں گے ان کی نسل سے

مگر بدکار اور سخت کافر ﴿۳۹﴾

اے میرے رب! معاف فرما دے مجھے

اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو

داخل ہو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے

اور سب مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بھی (معاف فرمائے)۔

اور نہ اضافہ کر ظالموں کے لیے

مگر ہلاکت میں ﴿۴۰﴾

(۷۲) سُورَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ (۱۲۰) اَيَاتُهَا ۲۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

اے نبی! کہو **وحی بھیجی گئی ہے میری طرف**

کہ غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے۔

سو کہا انہوں نے: **بلاشبہ ہم نے سنا ہے**

ایک قرآن **بڑا عجیب** ①

جو رہنمائی کرتا ہے **راہِ راست کی طرف**

اس لیے ہم ایمان لے آئے ہیں **اس پر**

اور ہرگز نہ شریک بنائیں گے ہم (اب) اپنے رب کے ساتھ کسی کو ②

اور یہ کہ بہت اعلیٰ و ارفع ہے **شان ہمارے رب کی،**

نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی اور نہ بیٹا ③

اور یہ کہ کہتے رہے ہیں ہمارے نادان لوگ

اللہ کے بارے میں بہت **خلافِ حق باتیں** ④

اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں بول سکتے انسان اور جن

اللہ کے بارے میں **جھوٹ** ⑤

اور یہ کہ تھے کچھ لوگ **انسانوں میں سے**

جو پناہ مانگا کرتے تھے **کچھ لوگوں کی جنوں میں سے،**

﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ﴾

إِنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ

فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا

قُرْآنًا عَجَبًا ①

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ

فَأَمَّا بِهِ ②

وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ③

وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا

مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ④

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا

عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ⑤

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ

عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ⑥

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ

يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ

فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۶

وَأَنْتَهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ

أَنْ لَنْ يَتَّبِعَ اللَّهُ أَحَدًا ۷

وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا

مُلْتًا حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۸

وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا

مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ، فَمَنْ يَسْمَعِ

الآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا رَصَدًا ۹

وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ

بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ

رَبُّهُمْ رَشَدًا ۱۰

وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا

دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا ۱۱

وَأَنَا ظَنْنَا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ

فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ۱۲

وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۱۳

فَمَنْ يُؤْمِنِ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ

بُخْسًا وَلَا رَهَقًا ۱۴

وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا

اس طرح بڑھا دیا انہوں نے جنوں کا غرور ۶

اور یہ کہ وہ بھی یہی گمان رکھتے تھے جیسا کہ تمہارا گمان ہے

کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا (مرنے کے بعد) اللہ کسی کو ۷

اور ہم نے مٹولا آسمان کو تو پایا، ہم نے اسے

کہ وہ پٹا پڑا ہے مضبوط پہرے واؤں سے اور شعلوں سے ۸

اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان میں

سن گن لینے کی جگہوں پر۔ لیکن جو شخص سننے کی کوشش کرتا ہے

اب تو پاتا ہے وہ اپنے لیے ایک شہابِ ثاقب ۹

اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ برائی کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے

ان کے ساتھ جو زمین میں ہیں یا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ

ان کے رب نے راہِ راست دکھانے کا ۱۰

اور یہ کہ ہمیں ہم میں سے کچھ نیک اور کچھ ہم میں سے ہیں

اور طرح کے۔ گویا ہمیں ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ۱۱

اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو

زمین میں اور نہیں ہر سکتے ہیں اس کو بھاگ کر ۱۲

اور یہ کہ جب سنی ہم نے ہدایت ایمان لے آئے ہم اس پر۔

سو جو شخص بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر تو اسے ڈرنے ہوگا

کسی قسم کی حق تلفی کا اور نہ ظلم کا ۱۴

اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرمانبردار ہیں اور کچھ ہم میں سے ہیں

الْقِسْطُونَ ۱۳ فَمَنْ أَسْكَمَ

فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۱۴

وَأَمَّا الْقِسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۱۵

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ

لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ۱۶

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَنْ يُعْرِضْ

عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۱۷

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا

مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۱۸

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ

كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۱۹

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي

وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۲۰

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ

ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۲۱

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۲۲

وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۲۳

إِلَّا بَلَاغًا

مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتٍ ۚ وَمَنْ

حق سے منحرف۔ سو جو فرمانبردار ہوئے

انہوں نے ڈھونڈ لی نجات کی راہ ۱۳

اور جو منحرف ہوئے حق سے تو بن گئے وہ جہنم کا ایندھن ۱۵

اور (مجھ پر وحی کی گئی ہے) کہ اگر لوگ قائم رہیں سیدھے راستے پر

تو ضرور سیراب کرتے ہم انہیں ڈھیروں پانی سے ۱۶

تاکہ آزمائیں ہم انہیں اس طرح۔ اور جو منہ موڑے گا

اپنے رب کی یاد سے، مبتلا کر دے گا وہ اسے سخت عذاب میں ۱۷

اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لہذا نہ پکارو (ان میں)

اللہ کے ساتھ کسی اور کو (شریک بنا کر) ۱۸

اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے

تو تیار ہو گئے یہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے ۱۹

ان سے کہیے کہ میں تو بس پکارتا ہوں اپنے رب کو

اور نہیں شریک بناتا میں اس کے ساتھ کسی کو ۲۰

ان سے کہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ نہیں اختیار رکھتا میں تمہارے لیے

کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا ۲۱

ان سے کہیے ہرگز نہیں بچا سکتا مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی

اور ہرگز نہیں پاتا میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ ۲۲

(میرا کام نہیں ہے) سوائے اس کے کہ پہنچاؤں بات

اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات۔ اور جو شخص بھی

يَعِصُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ

فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝۲۱

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا

مَا يُوعَدُونَ فَيَسْعَعَمُونَ

مَنْ أضعف ناصراً

وَأقلَّ عَدَدًا ۝۲۲

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ

مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ

لَهُ رَبِّيَ أَمَدًا ۝۲۳

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ

عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝۲۴

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ

فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝۲۵

لَيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا

رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ

بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ

كُلَّ شَيْءٍ ۝۲۶ عَدَدًا ۝۲۷

نافرمانی کرے گا التک اور اس کے رسول کی

تو یقیناً ہے اس کے لیے جہنم کی آگ،

رہیں گے ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ۝۲۱

یہ لوگ باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب دیکھ لیں گے

وہ چیز جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا

کہ کون بہت زیادہ کمزور ہے مددگاروں کے لحاظ سے

اور کس کا جتھا کم ہے تعداد میں ۝۲۲

ان سے کہیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آیا قریب ہے

وہ چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہے تم کو یا مقرر کر رکھی ہے

اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت ۝۲۳

وہ عالم الغیب ہے پس نہیں مطلع فرماتا وہ

اپنے غیب پر کسی کو ۝۲۴

سوائے اس رسول کے جسے پسند کر لیا ہو اس نے

تو صورت حال یہ ہے کہ لگا دیتا ہے وہ اس کے آگے

اور پیچھے نگہبان ۝۲۵

تاکہ وہ جان لے کہ درحقیقت انہوں نے پہنچا لیے ہیں

پیغامات اپنے رب کے اور وہ پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے

ان کے ماحول کا اور شمار کر رکھا ہے اس نے

ایک ایک چیز کو گن کر ۝۲۶

آيَاتُهَا ۲۰ (۷۳) سُورَةُ الْمُرْقَلِ مَكِّيَّةٌ (۳) ذِكْرُ عَائِشَةَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

﴿يَا أَيُّهَا الْمُرْقَلُ﴾ ①

اے اور ٹھلپٹ کر سونے والے ①

قَمِ الْيَلِّ إِلَّا قَلِيلًا ②

کھڑے رہا کرو رات کو (نماز میں) مگر تھوڑا حصہ ②

تَصَفَّةَ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ③

آدھی رات یا کم کر لو اس میں سے تھوڑا حصہ ③

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ

یا زیادہ کر لو اس پر (کچھ) اور پڑھو

الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ④

قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ④

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ⑤

یقیناً ہم نازل کرنے والے ہیں تم پر ایک بھاری کلام ⑤

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ

بے شک اٹھنا رات کو

هِيَ أَشَدُّ وَطْأً

ہے بہت ہی کارگر (نفس پر) قابو پانے کے لیے

وَأَقْوَمُ قِيلًا ⑥

اور بہت ہی خوب وقت ہے (قرآن) پڑھنے کے لیے ⑥

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ⑦

جبکہ یقیناً میں تمہارے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ⑦

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ

اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ⑧

اور اسی کے ہو رہو سب سے کٹ کر پوری طرح ⑧

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ

جو رب ہے مشرق و مغرب کا نہیں ہے کوئی معبود

إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ⑨

سوائے اس کے، سو بنا لو اسے اپنا کارساز ⑨

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

اور صبر کرو ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں

وَأَهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ⑩

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ

أُولِي النَّعْتَةِ وَمَهْلَهُمْ قَلِيلًا ⑪

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا

وَجَحِيمًا ⑫

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ⑬

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ

وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ⑭

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا

شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا

إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ⑮

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ

فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ⑯

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ

يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ⑰

السَّمَاءِ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۝

كَانَ وَعْدَهُ مَفْعُولًا ⑱

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ

اتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ⑲

اور ان کو نظر انداز کرو بھلے طریقے سے ⑩

اور چھوڑ دو مجھے نمٹنے کے لیے ان جھٹلانے والوں سے

جو خوشحال ہیں اور ہنس دو انہیں اسی حالت پر کچھ دیر اور ⑪

یقیناً میں ہمارے پاس (ان کے لیے) بھاری بیڑیاں

اور بھڑکتی ہوئی آگ ⑫

اور کھانا حلق میں پھنسنے والا اور دردناک عذاب ⑬

(یہ ہوگا) اس دن جب لرزا ٹھیں گے زمین اور پہاڑ

اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے بھر بھرے ٹیلوں کی مانند ⑭

یقیناً ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک رسول۔

گواہ بنا کر تم پر جس طرح ہم نے بھیجا تھا

فرعون کی طرف ایک رسول ⑮

تو نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی

تو دھریا ہم نے اسے بہت سخت پکڑ میں ⑯

سو کیسے پنج جاؤ گے تم اگر انکار کرو گے تم بھی

اس دن سے (جس کی سختی) کرے گی بچوں کو بوڑھا ⑰

اور آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اس کی دہشت سے۔

ہے وعدہ اللہ کا پورا ہو کر رہنے والا ⑱

یقیناً یہ ایک نصیحت ہے سو جس کا جی چاہے

اختیار کر لے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ ⑲

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ
 اَذْنِي مِنْ ثُلْثِي الْيَلِّ وَنِصْفَهُ وَثُلْثَهُ
 وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ
 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ
 عَلِمَ اَنْ لَنْ تَحْصُوهُ
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرءُوا مَا
 تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ
 مِنْكُمْ مَرْضًى ۙ وَاخْرُونَ يَضْرِبُونَ
 فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَاقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ
 وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَاَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ
 مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
 عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
 وَاَعْظَمَ اجْرًا
 وَاَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ
 اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۹﴾

یقیناً تمہارا رب نے ہی جانتا ہے کہ تم کھڑے ہوتے ہو عبادت کے لیے
 تقریباً دو تہائی رات اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی
 اور ایک گروہ بھی ان لوگوں کا جو تمہارے ساتھ ہیں
 اور اللہ ہی نے اندازے مقرر کیے ہیں رات اور دن کے۔
 اسے معلوم ہے کہ تم اس کا صحیح شمار ہرگز نہیں کر سکتے
 سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ لہذا پڑھو جتنا
 آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن۔ اسے معلوم ہے کہ ہوں گے
 تم میں سے کچھ مریض اور کچھ لوگ جو سفر کریں گے
 زمین میں اللہ کے فضل کی تلاش میں
 اور ہوں گے کچھ لوگ جو جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں۔
 لہذا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے۔
 اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ
 اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسنہ۔
 اور جو کچھ تم آگے بھجو گے اپنے لیے
 کسی قسم کی بھلائی کا کام تو پاؤ گے تم اسے
 موجود اللہ کے پاس اور یہی کام بہتر ہیں
 اور بہت بڑے ہیں اجر کے لحاظ سے
 اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو۔

یقیناً اللہ ہے بہت زیادہ معاف فرمانے والا نہایت مہربان ﴿۲۹﴾

آيَاتُهَا ۵۶ (۷۴) سُورَةُ الْمَدَّثَرِ مَكِّيَّةٌ (۲۱) وَكُتُبَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۱﴾

۱ اے اڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے ①

﴿قُمْ فَأَنْذِرْ ۲﴾

۲ اٹھو اور خبردار کرو ②

﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ۳﴾

۳ اور اپنے رب ہی کی بڑائی کا اعلان کرو ③

﴿وَشِيَابَكَ فطَهِّرْ ۴﴾

۴ اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو ④

﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۵﴾

۵ اور ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو ⑤

﴿وَلَا تَمَنََّنَّ تَسْتَكْثِرْ ۶﴾

۶ اور مت احسان کرو اس غرض سے کہ زیادہ فائدہ حاصل ہو ⑥

﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۷﴾

۷ اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو ⑦

﴿فَإِذَا نَقَرَ فِي النَّاقُورِ ۸﴾

۸ پھر جب بھونک ماری جائے گی صور میں ⑧

﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ عَسِيرٍ ۹﴾

۹ تو یہی دن ہوگا، بڑی مصیبت کا دن ⑨

﴿عَلَى الْكٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۱۰﴾

۱۰ کافروں کے لیے جس میں ذرا بھی آسانی نہ ہوگی ⑩

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۱۱﴾

۱۱ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے پیدا کیا میں نے اکیلا ⑪

﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ۱۲﴾

۱۲ اور دیا اس کو ڈھیروں مال ⑫

﴿وَبَنِينَ شُهُودًا ۱۳﴾

۱۳ اور بیٹے، حاضر رہنے والے ⑬

﴿وَمَهْدَتُّ لَهُ تَمَهِيدًا ۱۴﴾

۱۴ اور راہ ہموار کی اس کے لیے سرداری کی ⑭

﴿ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۱۵﴾

۱۵ پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں ⑮

كَلَّا ۚ لَآ اِنَّهٗ كَانَ لِآيٰتِنَا عٰنِيْدًا ۝۱۷

سَاۡرِهِيْهُ صَعُوْدًا ۝۱۸

لَآ اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝۱۸

فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝۱۹

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝۲۰

ثُمَّ نَظَرَ ۝۲۱

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝۲۲

ثُمَّ اَدْبَرَ وَاٰسْتَكْبَرَ ۝۲۳

فَقَالَ اِنَّ هٰذَا

اِلَّا سِحْرٌ يُؤْتٰرُ ۝۲۴

اِنَّ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشْرِ ۝۲۵

سَاۡصِلِيْهِ سَقَرَ ۝۲۶

وَمَا اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ ۝۲۷

لَا تُبْقٰى وَلَا تَدْرُ ۝۲۸

لَوَ اِحٰةٌ لِّلْبَشْرِ ۝۲۹

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝۳۰

وَمَا جَعَلْنَا اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلَآئِكَةً ۝

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً ۝

لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ لَيْسَتِيْقِيْنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا

ہرگز نہیں! وہ تو ہے ہماری آیات سے سخت عناد رکھنے والا ۝۱۷

مقترب میں چٹھانل گا سے ایک کٹھن چڑھائی ۝۱۸

واقعہ یہ ہے کہ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی ۝۱۸

سواللہ کی مارا اس پر کیسی بات بنائی اس نے! ۝۱۹

پھر اللہ کی مارا اس پر کیسی بات بنائی اس نے! ۝۲۰

پھر نظر دوڑائی ۝۲۱

پھر پیشانی سیکڑی اور منہ بنایا ۝۲۲

پھر ہٹا اور تکبر میں پڑ گیا ۝۲۳

آخر کار بولا، نہیں ہے یہ (قرآن)

مگر ایک جادو، جو پہلے سے چلا آ رہا ہے ۝۲۴

نہیں ہے یہ مگر انسانی کلام ۝۲۵

مقترب ہم جھونک دیں گے اسے جہنم میں ۝۲۶

اور کیا جانو تم، کیا ہے جہنم؟ ۝۲۷

وہ جو اب باقی رہنے سے اور نہ چھوڑے ۝۲۸

جھلسا دینے وال کھال کو ۝۲۹

اس پر مقرر ہیں انیس (کارکن) ۝۳۰

اور ہمیں بنائے ہیں ہم نے دوزخ کے یہ کارکن مگر فرشتے ہی۔

اور نہیں بنایا، ہم نے ان کی تعداد کو مگر ایک آزمائش

کافروں کے لیے تاکہ یقین کر لیں اس کا وہ لوگ جنہیں دی گئی تھی

الْكِتَابَ وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا
 وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ
 فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ
 مَاذَا آرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا
 كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ
 وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ
 وَمَا هِيَ إِلَّا

ذِكْرِي لِلْبَشَرِ ۳۱

كَلَّا وَالْقَمَرِ ۳۲

وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ۳۳

وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۳۴

إِنَّهَا لَإِخْدَى الْكَبِيرِ ۳۵

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۳۶

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ

أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۳۷

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۳۸

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۳۹

کتاب اور بڑھے ایمان والوں کا ایمان
 اور نہ شک میں رہیں وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب
 اور اہل ایمان اور کہیں وہ لوگ جن کے
 دلوں میں بیماری ہے اور کافر
 کیا چاہتا ہے اللہ اس مثال سے؟
 اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہے
 اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔

اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو کوئی سوائے اس کے۔

اور نہیں ہے یہ (دوزخ کا ذکر) مگر

ایک نصیحت آدمیوں کے لیے ۳۱

ہرگز نہیں! قسم ہے چاند کی ۳۲

اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے ۳۳

اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے ۳۴

یقیناً یہ (دوزخ) ایک آفت ہے بڑی آفتوں میں سے ۳۵

ڈراوا ہے انسانوں کے لیے ۳۶

ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے

کو آگے بڑھے یا پیچھے رہے ۳۷

ہر شخص اپنے کماٹے ہوئے اعمال کے بدلے میں رہن ہے ۳۸

سوائے دائیں بازو والوں کے ۳۹

فِي جَنَّتٍ ۖ يَتَسَاءَلُونَ ۙ ﴿۴۰﴾

جو جنتوں میں ہوں گے اور پوچھیں گے ﴿۴۰﴾

عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۙ ﴿۴۱﴾

مجرموں سے ﴿۴۱﴾

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۙ ﴿۴۲﴾

کیا چیز لے گئی تمہیں جہنم میں ﴿۴۲﴾

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ ۙ ﴿۴۳﴾

وہ کہیں گے نہ تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں ﴿۴۳﴾

وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ۙ ﴿۴۴﴾

اور نہ کھلایا کرتے تھے ہم کھانا مسکین کو ﴿۴۴﴾

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۙ ﴿۴۵﴾

اور باتیں بنایا کرتے تھے ہم مل کر حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ ﴿۴۵﴾

وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۙ ﴿۴۶﴾

اور مٹھلایا کرتے تھے ہم روزِ جزا کو ﴿۴۶﴾

حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ۙ ﴿۴۷﴾

یہاں تک کہ آگئی ہمیں موت ﴿۴۷﴾

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ۙ ﴿۴۸﴾

سو نہ فائدہ پہنچائے گی ان کو اب سفارش، سفارش کرنے والوں کی ﴿۴۸﴾

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ۙ ﴿۴۹﴾

آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس کتابِ نصیحت سے مڑتے ہوئے ہیں ﴿۴۹﴾

كَانَهُمْ حُرْمٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۙ ﴿۵۰﴾

گویا کہ وہ جنگلی گدھے ہیں ﴿۵۰﴾

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۙ ﴿۵۱﴾

جو بھاگ پڑے ہوں شیر (کی آہٹ) سے ﴿۵۱﴾

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ

بلکہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے

أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنْشَرَةً ۙ ﴿۵۲﴾

کہ دیا جائے اسے کھلا صحیفہ ﴿۵۲﴾

كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۙ ﴿۵۳﴾

ہرگز نہیں! اصل بات یہ ہے کہ یہ نہیں ڈرتے ہیں آخرت سے ﴿۵۳﴾

كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۙ ﴿۵۴﴾

خبردار یہ تو ایک نصیحت ہے ﴿۵۴﴾

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۙ ﴿۵۵﴾

سو جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے ﴿۵۵﴾

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

اور نہیں سبق حاصل کریں گے یہ لوگ اس سے اِلا یہ کہ چاہے اللہ۔

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَآهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۙ ﴿۵۶﴾

وہ لائق ہے ڈرنے کے اور وہ مالک ہے بخشش کا ﴿۵۶﴾

آيَاتُهَا ۴۰ (۴۵) سُورَةُ الْقِيَامَةِ مَكِّيَّةٌ (۳۱) وَكُتِبَتْهَا ۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

- ❖ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ①
- وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ②
- أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ ③
- أَلَّنْ نَجْمَعَهُ عِظَامَهُ ④
- بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ ⑤
- تُسَوَّىٰ بِنَانِهِ ⑥
- بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ⑦
- يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ⑧
- فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ⑨
- وَحَسَفَ الْقَمَرُ ⑩
- وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ⑪
- يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ ⑫
- كَلَّا لَا وَزَرَ ⑬
- إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ⑭
- يُنْتَبَهُوا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ ⑮
- ① نہیں قسم کھاتا ہوں میں روزِ قیامت کی
- ② اور نہیں، قسم کھاتا ہوں میں ملامت کرنے والے نفس کی
- ③ کیا سمجھ رکھا ہے انسان نے
- ④ کہ ہرگز نہیں جمع کر سکیں گے ہم اس کی ہڈیوں کو؟
- ⑤ کیوں نہیں ہم تو قادر ہیں اس پر بھی کہ
- ⑥ ٹھیک ٹھیک بنا دیں (دوبارہ) اس کی انگلیوں کے پور پور کو
- ⑦ مگر چاہتا ہے انسان کہ بد اعمالیاں کرتا ہے آئندہ بھی
- ⑧ پوچھتا ہے کہ کب آئے گا قیامت کا دن
- ⑨ سو جب چندھیا جائیں گی آنکھیں
- ⑩ اور گستا جائے گا چاند
- ⑪ اور ملا کر ایک کر دیے جائیں گے سورج اور چاند
- ⑫ کہے گا انسان اس دن، ہے کوئی جائے پناہ
- ⑬ ہرگز نہیں! نہیں ہے کوئی جائے پناہ
- ⑭ اپنے رب کے سامنے ہی اس دن ٹھہرنا ہوگا
- ⑮ بتا دیا جائے گا انسان کو اس دن

بِمَا قَدَّمُوا وَأَخَّرُوا ۱۳

بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۱۴

وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۱۵

لَا تَحْرِكُ بِهِ لِسَانَكَ

لِتَجْعَلَ بِهِ ۱۶

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۱۷

فَإِذَا قَرَأَهُ

فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۱۸

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا

بَيَانَهُ ۱۹

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ

الْعَاجِلَةَ ۲۰

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۲۱

وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۲۲

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ۲۳

وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۲۴

تُظَنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۲۵

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۲۶

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۲۷

اس کا اگلا پچھلا کیا کرایا ۱۳

بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے ۱۴

اگرچہ کتنی ہی پیش کرے معذرتیں ۱۵

نہ حرکت دو اس (قرآن کو یاد کرنے) کے لیے اپنی زبان کو

تاکہ جلدی یاد کر لو تم اسے ۱۶

یقیناً ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور پڑھوانا ۱۷

لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں

تو غور سے سنتے رہو اس کی قرأت کو ۱۸

پھر یقیناً ہمارے ہی ذمہ ہے

اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ۱۹

ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ محبت لکھتے ہو

دنیا سے ۲۰

اور چھوڑ دیتے ہو آخرت کو ۲۱

کچھ چہرے ہوں گے اس دن تروتازہ ۲۲

اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے ۲۳

اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن ادا اس ۲۴

سمجھ رہے ہوں گے کہ ہو گا ان کے ساتھ کمر توڑ بڑاؤ ۲۵

ہرگز نہیں! جب پہنچ جائے گی (جان) حلق میں ۲۶

اور کہا جائے گا ہے کوئی۔؟۔ جھاڑ پھونک کرنے والا ۲۷

وَوَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۲۸

وَالْتَقَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۲۹

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۳۰

فَلَا صَدَقَ

وَلَا صَلَّى ۳۱

وَلَكِنَّ كَذَبًا وَتَوَلَّى ۳۲

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمْتَقِي ۳۳

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۳۴

ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۳۵

أَيَنْحَسِبُ الْإِنْسَانُ

أَن يُتْرَكَ سُدًى ۳۶

الْمُرِيكَ نُطْفَةً

مِّن مَّنِيَّيْتِنِي ۳۷

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً

فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۳۸

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ

الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۳۹

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن

يُحْيِيَ النَّوْتَىٰ ۴۰

اور سمجھ لے گا وہ کہ یہ وقت ہے جدائی کا ۲۸

اور جڑ جائے گی پنڈلی، پنڈلی سے ۲۹

اپنے رب کی طرف اس دن روانگی ہوگی ۳۰

اس سب کے باوجود نہ ایمان لایا وہ

اور نہ نماز پڑھی اس نے ۳۱

بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا ۳۲

پھر چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف، اگڑتا ہوا ۳۳

افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے (تجھ پر) ۳۴

پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے (تجھ پر) ۳۵

کیا سمجھ لکھا ہے انسان نے

کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا بلا حساب کتاب ۳۶

کیا نہ تھا وہ ایک قطرہ

حقیر پانی کا جو ٹپکایا گیا (رحمِ مادر میں) ۳۷

پھر ہوا ایک لوتھڑا

پھر پیدا کیا اسے اللہ نے اور ہر لحاظ سے درست کیا ۳۸

پھر بنا دیے اس سے جوڑے جوڑے

مرد اور عورت ۳۹

کیا نہیں ہے یہ ہستی قادر اس پر کہ

زندہ کرے مردوں کو ۴۰

آيَاتُهَا ۳۱ (۷۶) سُورَةُ الدَّهْرِ مَكِّيَّةٌ (۹۸) وَكُوعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

کیا گزرا ہے انسان پر ایک ایسا وقت،

زمانے کا کہ نہ تھا وہ

کوئی قابلِ ذکر چیز ①

بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو

ایک مخلوقِ نطفہ سے تاکہ امتحان لیں اس کا اسی لیے بنایا ہے ہم نے اسے

سننے والا، دیکھنے والا ②

ہم نے دکھا دیا ہے اسے راستہ اب چاہے

دینِ جلتے اشکر کرنے والا یا کفر کرنے والا ③

یقیناً ہم نے مہیا کر رکھی ہیں کافروں کے لیے زنجیریں،

طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ ④

یقیناً نیک لوگ پیئیں گے شراب کے جام

جن میں آمیزش ہوگی کافر کی ⑤

یہ ایک چشمہ ہے کہ پیئیں گے اس میں سے اللہ کے بندے

اور شاخص نکال لیں گے اس میں سے جس طرح کھانا چاہیں گے ⑥

یہ وہ لوگ ہوں گے جو پوری کیا کرتے تھے اپنی نذر اور ڈرتے تھے

هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ

مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ

شَيْئًا مَّذْكَورًا ①

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ

سَمِيعًا بَصِيرًا ②

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا

شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ③

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا

وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ④

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ

كَانَ مِزْجُهَا كَأْفُورًا ⑤

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ

يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ⑥

يُوقُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ

اس دن سے جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی ④
 اور کھلایا کرتے تھے کھانا اللہ کی محبت میں
 مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو ⑤
 (اور کتے تھے) کہ بس کھلا ہے ہیں ہم تم کو اللہ کی خاطر
 نہیں چاہتے ہم تم سے کوئی بدلہ اور نہ شکریہ ⑥
 بلاشبہ ہمیں ڈر ہے اپنے رب سے اس دن (کے عذاب) کا
 جو سخت مصیبت کا اور انتہائی طویل ہوگا ⑦
 سو بچالے گا ان کو اللہ اس دن کے شر سے
 اور عنایت فرمائے گا انہیں تروتازگی اور سرور ⑧
 اور عطا کرے گا انہیں بدلے میں اس صبر کے جو انہوں نے کیا
 جنت اور ریشمی لباس ⑨
 تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے یہ وہاں اونچی اونچی مسندوں پر
 اور نہ برداشت کرنی پڑے گی انہیں وہاں سورج لگی گرمی،
 اور نہ ٹھہر (جاٹے کی) ⑩
 اور جھکی ہوئی ہوں گی ان پر جنت کی چھاؤں
 اور بس میں کر دیے گئے ہوں گے ان کے، اس کے پھل پوری طرح ⑪
 اور گردش کرائے جائیں گے، اہل جنت پر برتن چاندی کے
 اور پیالے جو شیشے کے ہوں گے ⑫
 اور شیشہ بھی چاندی کی قسم کا ہوگا

يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ④
 وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ
 مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ⑤
 إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ
 لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ⑥
 إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا
 عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ⑦
 فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ
 وَلَقَّضَهُمْ نَصْرَهُ وَسُرُورًا ⑧
 وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا
 جَنَّةً وَحَرِيرًا ⑨
 مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ
 لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا
 وَلَا زَمْهَرِيرًا ⑩
 وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا
 وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ⑪
 وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَّةٍ مِنْ فِضَّةٍ
 وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ⑫
 قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ

قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا ۱۶

وَيُسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا

كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۱۷

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۱۸

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ

وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ

حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ۱۹

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ

نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ۲۰

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ

خُضْرٌ وَأَسْتَبْرَقٌ ۲۱

وَحُلُوعًا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۲۲

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۲۳

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ

سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ۲۴

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ

الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۲۵

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ

مِنْهُمْ إِثْمًا أَوْ كَفُورًا ۲۶

جنہیں وہ بھریں گے ٹھیک اندازے کے مطابق ۱۶

اور پلائے جائیں گے انہیں وہاں ایسے جام

جن میں آمیزش ہوگی سونٹھ کی ۱۷

یہ ایک چٹمہ ہوگا جنت میں جس کا نام ہے سلسبیل ۱۸

اور دوڑتے پھر رہے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے

ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو

تو خیال کرو گویا کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے ۱۹

اور جب تم نگاہ ڈالو گے وہاں تو دیکھو گے ہر طرف

لعتیں ہی لعتیں اور بڑی سلطنت کی شان و شوکت ۲۰

ہوں گے ان کے اوپر کے کپڑے باریک ریشم کے

جو سبز رنگ کے ہوں گے اور چمکدار

اور پہنائے جائیں گے انہیں کنگن چاندی کے

اور پلائے گا انہیں ان کا رب نہایت پاکیزہ شراب ۲۱

(ارشاد ہوگا، بلاشبہ یہ ہے تمہاری ہی جزا اور تمہی

تمہاری کارگزاری قابل قدر ۲۲

یقیناً ہم نے ہی نازل کیا ہے تم پر

قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے ۲۳

لہذا تم جمے رہے اپنے رب کے حکم پر اور نہ مانو بات

ان میں سے کسی بد عمل کی یا ناشکرے کی ۲۴

وَأَذِكُرُ اسْمَ رَبِّكَ

بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۲۵

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ

لَهُ وَسَبِّحْهُ

لَيْلًا طَوِيلًا ۲۶

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ

الْعَاجِلَةَ

وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۲۷

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ

وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ

وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا

أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ۲۸

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ ۚ فَمَنْ شَاءَ

اتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۲۹

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۳۰

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ

وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ

لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۳۱

اور ذکر کرتے رہو اپنے رب کے نام کا

صبح و شام ۲۵

اور رات کو بھی سجدہ کرو

اس کے حضور اور تسبیح کرتے رہو اس کی

رات میں دیر تک ۲۶

یقیناً یہ لوگ محبت رکھتے ہیں

جلدی حاصل ہو جانے والی (دنیا) سے

اور نظر انداز کیے دے رہے ہیں اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو ۲۷

ہم ہی نے پیدا کیا ہے ان کو

اور مضبوط کیے ہیں ان کے جوڑ بند

اور جب چاہیں گے ہم بدل دیں گے

ان کی شکلوں کو جس طرح بدلنا چاہیں گے ۲۸

یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، پس جو شخص چاہے

بنالے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ ۲۹

اور تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ۔

یقیناً اللہ ہے سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ۳۰

داخل فرماتا ہے جسے چاہے اپنی رحمت میں۔

اور رہے ظالم، تیار کر رکھا ہے اللہ نے

ان کے لیے دردناک عذاب ۳۱

آیاتھا ۵۰ (۷۷) سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ (۳۳) ذُكُوعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

- ۱ قسم ہے ان (ہواؤں) کی جو چلائی جاتی ہیں **سج سج** ①
- پھر چلتی ہیں **طوفانی رقنار سے** ②
- اور (ان کی) جو پھیلاتی ہیں (بادلوں کو) **اشاکر** ③
- پھر جدا کرتی ہیں انہیں **پھاڑ کر** ④
- پھر ڈالتی ہیں (دلوں میں اللہ کی) **یاد** ⑤
- تو بہ کے لیے **یا ڈرا دے کے لیے** ⑥
- یاد رکھو جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے
- وہ ضرور واقع ہونے والی ہے ⑦
- چنانچہ جب ستارے **ماند پڑ جائیں گے** ⑧
- اور جب آسمان **پھاڑ دیا جائے گا** ⑨
- اور جب پہاڑ **دھنک ڈالے جائیں گے** ⑩
- اور جب **رسولوں کی**
- ماضی کا وقت **آپہنچے گا** (اس دن وہ چیز واقع ہو جائے گی) ⑪
- کس دن کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ ⑫
- فیصلہ کے دن کے لیے ⑬
- ۱ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ①
- ۲ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ②
- ۳ وَالنُّشْرِ نَشْرًا ③
- ۴ فَالْفِرْقِ فِرْقًا ④
- ۵ فَالْمُلْقِ ذِكْرًا ⑤
- ۶ عُدْرًا أَوْ نُذْرًا ⑥
- ۷ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ⑦
- ۸ فَإِذَا النُّجُومُ طُبِسَتْ ⑧
- ۹ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ⑨
- ۱۰ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ⑩
- ۱۱ وَإِذَا الرَّسُلُ أُقْتَتَتْ ⑪
- ۱۲ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ⑫
- ۱۳ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ⑬

وَمَا آدْرَبِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۱۳

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۱۵

أَلَمْ نُهْلِكِ الْآوَالِينَ ۱۶

ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ۱۷

كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۱۸

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۱۹

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۲۰

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۲۱

إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۲۲

فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ

الْقُدْرُونَ ۲۳

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۲۴

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۲۵

أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۲۶

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَاهِقَاتٍ

وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فَرَاتًا ۲۷

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۲۸

إِنطَلِقُوا إِلَىٰ مَا

كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ۲۹

اور کیا جانو تم کیسا ہوگا فیصلہ کا دن؟ ۱۳

تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ۱۵

کیا نہیں ہلاک کر دیا ہم نے پہلوں کو؟ ۱۶

پھر انہی کے پیچھے چلاتے ہیں ہم بعد والوں کو ۱۷

یہی کچھ کیا کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ ۱۸

تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ۱۹

کیا نہیں پیدا کیا ہے ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے؟ ۲۰

پھر ٹھہرائے رکھا ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں ۲۱

ایک مقررہ مدت تک ۲۲

تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، سو ہم بہت اچھی

قدرت رکھنے والے ہیں ۲۳

تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ۲۴

کیا نہیں بنایا ہے ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی ۲۵

زمینوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ ۲۶

اور جھامیے ہیں ہم نے اس میں شکر بند و بالا پہاڑوں کے

اور پلایا ہے ہم نے تم کو میٹھا پانی ۲۷

تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ۲۸

چلو تم اس چیز کی طرف

جسے تم جھٹلایا کرتے تھے ۲۹

انْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ
 ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۝
 لَا ظِلِيلٌ وَلَا يُغْنِي
 مِنَ اللَّهَبِ ۝
 إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّهَا
 كَالْقَصْرِ ۝
 كَأَنَّهُ جِلْتُ
 صَفْرٌ ۝

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝
 هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۝
 وَلَا يُؤْذَنُ
 لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۝

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝
 هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنَاكُمْ
 وَالْأَوْلِيْنَ ۝
 فَإِنْ كَانَ
 لَكُمْ كَيْدٌ
 فَكِيدُوا ۝

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

چلو اس سایہ کی طرف

جو تین شاخوں والا ہے ۝

نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ بچانے والا

آگ کے شعلوں سے ۝

بے شک وہ آگ پھینکے گی ایسے انگارے

جو بڑے بڑے محلات کے برابر ہوں گے ۝

گویا کہ وہ اونٹ ہیں

زرد رنگ کے ۝

تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ۝

یہ وہ دن ہوگا کہ نہ بول سکیں گے کچھ ۝

اور نہ اجازت دی جائے گی

انہیں کہ عذر پیش کریں ۝

تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ۝

یہ ہے فیصلہ کا دن جمع کر دیا ہے ہم نے تم کو بھی

اور تم سے پہلے گزرے ہوؤں کو بھی ۝

سو اگر ہے

تمہارے پاس کوئی چال

تو چل دیکھو میرے مقابلہ میں ۝

تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ۝

إِنَّ الْمُتَّقِينَ

فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ﴿٣١﴾

وَفَوَاحِشَ مِمَّا

يَشْتَهُونَ ﴿٣٢﴾

كُلُوا وَاشْرَبُوا

هَنِيئًا

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي

الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا

قَلِيلًا إِنَّكُمْ

مُجْرِمُونَ ﴿٣٦﴾

وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا

لَا يَرْكَعُونَ ﴿٣٨﴾

وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٩﴾

فِي آتِي حَدِيثٍ

بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٤٠﴾

يَقِينًا متقی لوگ

ہوں گے سایوں میں اور چشموں میں ﴿٣١﴾

اور پھل ہوں گے ہر قسم کے جن کی

وہ خواہش کریں گے ﴿٣٢﴾

دکھا جائے گا کھاؤ اور پیو

مزے مزے کر

ان اعمال کے بدلہ میں جو تم کرتے رہے ﴿٣٣﴾

یقیناً ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں

اچھا اور معیاری کام کرنے والوں کو ﴿٣٤﴾

تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ﴿٣٥﴾

کھاؤ اور مزے لوٹو

تھوڑے دن - یقیناً تم

مجرم ہو ﴿٣٦﴾

تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ﴿٣٧﴾

اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ جھکو (اللہ کے آگے)

تو نہیں جھکتے ﴿٣٨﴾

تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ﴿٣٩﴾

سواب کونسا کلام ہو سکتا ہے

قرآن کے بعد جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ ﴿٤٠﴾